

ایک حدیث

احتکار کی لعنت

سیدنا عمر صلوات اللہ علیہ سے ایک ارشاد نبویؐ یوں مروی ہے :

الجالب مرادوق والاحتکار ملعون -

بیوپاری کو زرق اور احتکار کرنے والے کو لعنت ملتی ہے یہ بالکل ایسی ارشاد نبویؐ انہی الفاظ سے اثنا عشری شیعوں کی چاروں اصول میں بھی جناب جعفر صادقؑ سے مروی ہے یہ

کسی حدیث کی صحت کا ایک معیار اس کا اختصار بھی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آنحضرتؐ کو جو اس حکم کی نعمت قدرت کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ یعنی حضورؐ ایک ایسے چوڑے مضمون کو چند لفظوں میں پوری جامعیت کے ساتھ ادا کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ دوسرے ایسی لمبی روایات کو ہر سننے والا اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اسے بیان کرتے ہوئے الفاظ کا رد و بدل ہو جانا ایک قدرتی بات ہے بخلاف مختصر حدیث کے کہ اس میں کسی رد و بدل کا امکان گویا رہتا ہی نہیں۔ سننے والا اسے سن کر اسی طرح دہرا دیتا ہے اور اس میں اسے کوئی ہوشواری نہیں ہوتی۔

زیر نظر حدیث چار لفظوں کا مجموعہ ہے جسے نہ تو یاد رکھنے میں کوئی دقت ہے نہ کسی سے بیان کرنے میں کوئی ہوشواری ہے۔ ان چند لفظوں کو صحیح صحیح ادا کرنے میں کسی رد و بدل کا کوئی اندیشہ نہیں پھر یہ بات بھی ایسی ہے کہ کسی صاحب عقل و عدل کے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس سچی حقیقت سے انکار کی

۱۔ ابو داؤد، کتاب البیوع - ابن ماجہ کتاب التجارات -

۲۔ دیکھیے عماد کانی ج ۱ ص ۳۷۵ - من لایحضرہ الفقہاء ج ۳ ص ۱۶۹، الاستبصار فیہ اختلاف

۳۔ من الاخبار ج ۳ ص ۱۱۴، تہذیب الاحکام ج ۲ ص ۱۶۱

کوئی گنجائش نہیں۔

تشریح سننے سے پہلے ایک اور حدیث کو بھی سامنے رکھیے جو اہل سنت اور اثنا عشری کی متفق علیہ

ہے۔ حدیث یوں ہے :

لا ضرر ولا ضرار

نہ نقصان اٹھایا جائے نہ نقصان پہنچایا جائے۔

یہ بھی ہر فرقے کی ففہ کا ایک تسلیم شدہ اصول ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے تمام معاملات اور نوایا اسی محور کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ہر حکم کا مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اگر کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہنے یا کوئی عظیم تر نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو اسے نقصان اٹھانا نہیں قرار دیا جاسکتا۔ وہ اسلام کسی کے نقصان کو کیونکر گوارا کر سکتا ہے جس کا مقصد ہی نفع سے سرفراز کرنا اور نقصان سے بچانا ہو اور جس کی سب سے بڑی اخلاقی قدر نفع رسانی ہو؟ آنحضور کا ارشاد ہے :

خیر الناس الفقہاء للناس

جو شخص انسانوں کو جتنا زیادہ نفع پہنچائے گا وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔

اسی نقطہ نظر سے زیر بحث حدیث نبویؐ کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ نفع رسانی کا دین ہے تو یکس طرح ممکن ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا دوا دار ہو؟ آپ سارے نوایا کو دیکھ جائیے تو آپ کو ان میں بڑا شریک نکتہ ملے گا وہ یہی ہوگا کہ روکا انہی چیزوں سے گیا ہے جن سے خود ہمیں نقصان پہنچتا ہے یا کسی دوسرے کو۔ وہ نقصان خماہ و نبویؐ ہو یا اخروی۔ مادی ہو یا روحانی۔ عارضی ہو یا مستقل، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ ایسے نوایا کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے۔

ایسے ہی احکام میں تجارت کی وہ تمام قسمیں بھی ہیں جن سے کسی ایک فریق یعنی خریدار یا فروشنہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خریدار فروخت میں خسار یا کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے تو فروشنہ کو

۱۔ ابن ماجہ کتاب الاحکام، ۲۔ (اصول کافی ج ۱، ص ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴

اس کی لعنت کا مناسب نفع حاصل ہوتا ہے تو یہ ایک جائز و مفید تجارت ہے۔ ایسے ہی تاجر کو "جالب" کہتے ہیں اور ایسی تجارت بلاشبہ جائز ہے لیکن جس تجارت میں دھوکا ہو۔ نفع رسانی کی بجائے نفع اندوزی ہو۔ مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ تجارت بلاشبہ حرام ہے۔ ایسی ہی حرام خوردی کی ایک قسم احتکار بھی ہے۔ بعض لوگ غلتے یا دوسری اشیائے ضرورت کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ اس سے لازماً ان اشیاء کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ذخیرے کو باہر نکال کر گلاں سے گراں قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کے ضرورت مند ہیں لہذا منہ مانگے داموں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ ان کی اس مجبوری سے مالی فائدہ حاصل کرنے ہی کا دوسرا نام استحصال ہے اور استحصال خواہ کسی شکل میں اور کسی راستے سے آئے اسلام میں حرام ہے۔

احتکار کرنے والے کا عجیب مزاج بن جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو تڑپتا دیکھ کر ان کے نقص سبیل سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان کی مدد کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ حیب خالی کر کے خوش ہوتا ہے اور ان کو مزید مجبور کر دینے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اور اس کی "ہوس ہلی ہن ہزید میں مزیدہ افنا" ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس کی سنگ دلی میں بھی مزید ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسے انسانی جان کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ وہ انسانوں کو خود ہی مشکلات میں محض اپنی نفع اندوزی کے لیے مبتلا کرتا ہے اور نفع اندوزی کا یہ نخوس جذبہ اس کے اندر سے نفع رسانی کی ساری صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے احتکار کرنے والے کو قاتل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا:

يَحْتَارُ الْحَاكِرُونَ وَقَتْلَةُ الْإِنْفَسِ فِي دَرَجَةٍ -

احتکار کرنے والے اور قتل کرنے والے بروز حشر ایک ہی صف میں اٹھائے جائیں گے۔

قاتل تو قتل کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتا ہے لیکن احتکار کرنے والا ایسا قاتل ہے جو نقص سبیل سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ یہ حرکت مذہبوحی جاری رہے اور ایک دو فرد کا نہیں ساری قوم کا نقص سبیل ہوتا رہے اور یہ ان سے جلب منفعت کا مشغلہ جاری رکھے۔

بظاہر تو جالب بھی تجارت کرتا ہے اور محتک بھی، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جالب کو مزدق یعنی لذق حلال حاصل کرنے والا کہا گیا ہے اور محتک کو ملعون بتایا گیا ہے۔ اگر محض نفع

حاصل کرنا کوئی نیکی ہوتی تو محتک کو جالب سے زیادہ کمانے والا ہونے کی وجہ سے زیادہ نیکو کار ہوتا لیکن دونوں میں جو عظیم الشان فرق ہے وہ یہ ہے کہ جالب کا مقصد نفع رسانی ہے اور محتک کا مقصد نفع اندوزی ہے۔ جالب کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ضروریات زندگی آسانی سے فراہم ہوں اور ضمناً اس کو اپنی محنت کا صلہ بھی مل جائے لیکن محتک کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہ ہوں اور وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں اور وہ ان کی مجبوری سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ جالب اور محتک میں فرق پیدا کرنے والی شے دراصل انہی دو مقناذ جذبوں کا فرق ہے ورنہ نفع دونوں حاصل کرتے ہیں۔ ایک نفع رسانی کو مقدم رکھتا ہے اور دوسرا نفع اندوزی کو۔ ورنہ نفع کمانے میں بظاہر دونوں یکساں نظر آتے ہیں۔ دراصل اسی جذبہ و رجحان کے فرق کی وجہ سے ایک کو مزوق اور دوسرے کو ملعون کہا گیا۔

یہاں ایک نکتہ اور بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خوردہ فروشوں کو احتکار کے مواقع نہیں ملتے یا بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ تر احتکار و ذخیرہ اندوزی وہ لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یا پیداواری ذرائع پر قابض ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی خوردہ فروش ذخیرہ اندوزی و احتکار کا موقع نہیں پاتا اگر زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا جذبہ رکھتا ہے اور نفع رسانی پر نفع اندوزی کو مقدم رکھتا ہے تو وہ گراں فروش بن جاتا ہے اور خریداریوں کو لوٹنے کا وہی جذبہ رکھتا ہے جو کوئی سرمایہ دار محتک رکھتا ہے۔ ایسے خوردہ فروشوں کو بھی محتک ہی شمار کرنا چاہیے یہ تو اس کی بد قسمتی یا خوش قسمتی ہے جو اس کو احتکار کے وسائل میسر نہیں لیکن اگر اسے ایسا موقع مل جائے تو اس میں اور دوسرے محتک میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ اس قسم کی نفع اندوزی اور گراں فروشی کا علاج صرف مواعظِ حسنت سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قانونی تعزیرات کو بھی حرکت میں لانا پڑے گا۔ خوردہ فروش تو بڑے سے بڑے ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے نقال اور مقلد ہوتے ہیں۔ اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں جو احتکار کو جنم دیتے ہیں، جو وسائل سپلائی پر قابض ہیں اور جو اپنی سرمایہ داری کے بل بوتے پر ہر طرح کا استحصال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں دنیا کو اپنی انگلیوں پر سچاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان کا سترِ باب کرنا ضروری ہے۔